




یوم بھتی کشمیر کے موقع پر سیمینار سے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما محمود ساغر، صوبائی وزیر خوراک جام مہتاب ڈبرو اور نواز اکت خان، میٹروپولیٹن کونسلر مسیح صدیقی اور بشیر سدوزی خطاب کر رہے ہیں

جس فارمولے کے تحت یہاں کے علاقے پاکستان یا بھارت کے ساتھ ملحق ہوئے تھے، اس کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہئے تھا لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس وقت کی بھارتی قیادت کی ملی بھگت سے کشمیر کو ایک تنازعہ کی شکل دے دی گئی۔ اس حق تلفی کے باوجود پاکستان کا موقف تھا اور ہے کہ کشمیر یوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق یا پھر کوئی تیسرا آپشن۔ اقوام متحدہ نے بھی اسی فطری حل کو پسند کیا اور استصواب رائے کے ذریعہ کشمیر یوں کی مرضی معلوم کر کے مسئلہ حل کرنے کو کہا۔ اسی بنیاد پر سلامتی کونسل نے قرارداد بھی منظور کی لیکن بھارت نے اقوام متحدہ کے حل کو کبھی تسلیم کیا نہ ہی

اقوام متحدہ نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس کی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے خلاف ہر سال 5 فروری کو کشمیر یوں سے اظہار بھتی کے لئے ”یوم بھتی کشمیر“ منایا جاتا ہے۔ رواں برس بھی 5 فروری کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے سوک سینٹر کے زینڈاے نظامی ہال میں یوم بھتی کشمیر کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا جس سے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما محمود احمد ساغر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا حل چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے اقوام متحدہ کی قراردادیں بہترین روڈ میپ ہیں ان پر عمل کیا جانا ضروری ہے کشمیری اپنی جدوجہد میں تھکے نہیں بلکہ آج

# یوم بھتی کشمیر

کشمیر وہ خطہ ہے جہاں کے نظارے روح پرور ہیں اور ہوائیں صحت بخش۔ کشمیر کی قدیم تاریخ تقریباً 5 ہزار سال سے محفوظ ہے جس کے مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کشمیر زمانہ قدیم ہی سے بہادروں اور مجاہدوں کی سرزمین ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اول روز سے ہی اس مسئلے کے فطری حل پر زور دیتا ہے۔ برصغیر کے وقت



یوم بھتی کشمیر کے موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما محمود ساغر، صوبائی وزیر خوراک جام مہتاب ڈبرو اور میٹروپولیٹن کونسلر مسیح صدیقی کی قیادت میں ریلی نکالی جا رہی ہے